

برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ 21 مارچ اور 23 مارچ سے شروع کرتے ہوئے مفت کرایے، پچھلے دروازے سے داخلہ، آدھی گنجائش والی بسیں اور مزید متعارف کروانے جا رہا ہے

برامپٹن، آن (20 مارچ 2020) – آج، برامپٹن ٹرانزٹ نے اعلان کیا کہ کووڈ-19 کے ردعمل میں تاحکم ثانی بروز ہفتہ، 21 مارچ سے شروع کرتے ہوئے کرایے کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہو گی۔ صارفین بسوں میں صرف پچھلے دروازے سے داخل ہو سکیں گے۔ رسائی کی خصوصی ضروریات والے صارفین، جنہیں ریمپ کی ضرورت ہوتی ہے، اگلے دروازے کا استعمال کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔

بروز پیر، 23 مارچ سے شروع کرتے ہوئے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں بھی مؤثر ہوں گی:

- پیر-جمعہ ہفتے کے دن والی اضافی سروس۔ اس کی تفصیلات [یہاں](#) پائی جا سکتی ہیں۔
- ہفتے اور اتوار کی سروس اپنے عمومی اوقات پر جاری رہے گی۔
- 185 کلارک بولوارڈ اور 130 سینڈل ووڈ پارک وے ویسٹ پر واقع برامپٹن ٹرانزٹ کے انتظامی دفاتر عوام کے لیے بند ہوں گے۔ اس وقت کے دوران کرایے کی ادائیگی کی ضرورت نہ ہوتے ہوئے، برامپٹن ٹرانزٹ کے سینیئر آئی ڈی کارڈز، ویٹیرنز کارڈز اور PRESTO سلیز کے تمام اجراء معطل رہیں گے۔ چیزیں گمنے اور ملنے کے حوالے سے سوالات کے متعلق صارفین 905.874.2750 اکسٹینشن 62732 پر کال کر سکتے ہیں۔

کمیونٹی میں کرونا وائرس کی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ 23 مارچ کو درج ذیل اقدامات بھی اٹھائے گی:

- سواریوں کے درمیان فاصلہ بڑھانے کے لیے بسوں پر گنجائش سے آدھے سوار ہی بٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بسوں میں آدھی سواریاں موجود ہونے کی صورت میں دوسرے اسٹاپس سے سواریاں نہیں بٹھائی جائیں گی۔ اسٹاپوں پر موجود سواریوں کو مزید بسوں کے ذریعے اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔
- زیادہ مصروف روٹس پر جڑی ہوئی بسیں چلائی جائیں گی تاکہ سفر کے دوران مسافر ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جڑی ہوئی زوم بسوں کو باقاعدہ روٹس پر بھی دیکھا جا سکے گا۔ براہ کرم بسوں پر آویزاں کردہ منازل کی معلومات پر خصوصی توجہ دیں۔
- اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ملازمین سمیت بس میں سوار تمام لوگوں درمیان مناسب فاصلہ موجود ہو، نشستوں پر پیلے رنگ کی ٹیپ سے نشان لگا دیا جائے گا اور مسافروں سے گزارش کی جائے گی کہ وہ ان نشستوں پر نہ بیٹھیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز اور اس کے رابطہ سنٹر اس وقت کے دوران اپنے کام کے عمومی اوقات کار کے مطابق فعال رہیں گے۔ اوقات کار میں لائی جانے والی ہر قسم کی تبدیلیوں کو بذریعہ www.bramptontransit.com شائع کر دیا جائے گا۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی میڈرز آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا Twitter پر bramptontransit@ فالو کریں۔

اقتباسات

"ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پر عزم ہیں، کہ برامپٹن اس غیر معمولی وقت پر ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہم مفت کرایے، پچھلے دروازے سے داخلے اور آدھی گنجائش والی بسوں کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ ایک انتہائی اہم سروس ہے، جو کئی رہائشیوں کو ان کی ضروریات تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے اور ہم اس تک رسائی کے ممکن بنانے کے لیے وقف ہیں۔ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے پر عزم ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں کو نقل و حمل کے محفوظ ذرائع فراہم کرنے کے لیے وقف ہے، جبکہ ہم اپنے ٹرانزٹ آپریٹرز کی مسلسل حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اپنی خدمات کو برقرار رکھنے کے لیے، آج کا اعلان یقینی بناتا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں حفاظت کو آگے اور تمام چیزوں کے مرکز میں رکھیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca